

برائے فوری اجراء

سٹی 31 مئی تا 6 جون 2020 نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک منا رہا ہے

برامپٹن، آن (4 جون 2020) – سٹی آف برامپٹن 6 جون تک نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک منا رہا ہے۔ نیشنل ایکسیس ایبلٹی ویک معذوریوں کے حامل کینیڈین باشندوں کے قیمتی کردار کو مناتا ہے اور ایسے افراد، کمیونٹیوں اور جائے کار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو رسائی اور شمولیت میں درپیش مشکلات کو ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

سٹی آف برامپٹن اور اس کی [ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی](#) اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن میں رہنے والے ہر عمر اور ہر طرح کی استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے مواقع سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی معذوریوں کے حامل افراد کو مسائل اور خدشات پر آواز اٹھانے کے لیے ایک فورم فراہم کرتی ہے۔ یہ برامپٹن سٹی کونسل کو سٹی کے پروگراموں، پالیسیوں اور عمل درآمد کے حوالے سے بھی مشورہ اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران، سٹی سینیٹرز اور سوشل سپورٹ ٹاسک فورسز کے ذریعے معذوریوں کے حامل رہائشیوں کی معاونت کرنا جاری ہے۔ اس معاونت میں گھریلو ضرورت کی اشیاء کی خریداری، خوراک تک رسائی اور معلومات کے متبادل فارمیٹس فراہم کرنا شامل ہے۔ رسائی کے حوالے سے وسائل اور کسی بھی شائع شدہ یا سٹی کے آن لائن مواد کو [متبادل فارمیٹس](#) میں حاصل کرنے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

رک بیرسن فاؤنڈیشن ایکسیس ایبلٹی سرٹیفیکیشن ریٹنگ

مارچ میں، سٹی کو اونٹاریو کی آن دس میونسپلٹیوں میں سے ایک کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے جن کی مقامی تنظیمیں رک بیرسن فاؤنڈیشن ایکسیسیبلٹی سرٹیفیکیشن (RHFA) کی اعزازی درجہ بندی کے لیے درخواست دے سکتی ہیں، جو ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت اس بات کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ قابل رسائی عمارتیں معذور لوگوں کی رسائی کے لیے کس حد تک آسان اور بہترین بنائی گئی ہیں۔

معذور افراد کے لیے اپنی عمارتوں میں رسائی کی آسانی کو سمجھنے اور اس میں بہتری لانے کے طریقوں کی شناخت کے لیے برامپٹن کی غیر منافع بخش تنظیموں کے علاوہ تمام نجی اور سرکاری تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ RHFA کی مفت درجہ بندی کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسی عمارتیں جن کو بلند درجے عطا کیے جائیں گے، انہیں رک بیرسن فاؤنڈیشن ایکسیسیبلٹی سرٹیفائیڈ یا ایکسیسیبلٹی سرٹیفائیڈ گولڈ کے طور پر جانا جائے گا۔

کمیونٹیز کو زیادہ قابل رسائی بنانے کے مقصد کے حصول کے لیے اس نئے اعزازی RHFA پروگرام کو مالی معاونت حکومت اونٹاریو اور رک بیرسن فاؤنڈیشن کی جانب سے مہیا کی گئی ہے۔ برامپٹن کو اس کی آبادی کے حجم اور جغرافیائی تنوع کی بناء پر منتخب کیا گیا ہے۔ اس اعزازی RHFA درجہ بندی کے لیے پورے برامپٹن سے تقریباً 25 مقامات کو اہل تصور کیا گیا ہے۔ تنظیموں کو لازمی طور پر 27 مارچ تک بذریعہ www.rickhansen.com/freerating درخواست دے دینی چاہیے۔

RHFA کے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

ایکسیس ایبلٹی ایوارڈز

ایکسیس ایبلٹی ایوارڈز ایک شہری اعزاز کا پروگرام ہے، جو رسائی کی آسانی اور معذوریوں کے حامل لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے عزم ظاہر کرنے والے افراد، کاروباروں اور تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔

2020 ایکسیسیبلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں ستمبر میں کھلیں گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مزید معلومات اور آن لائن نامزدگی کا فارم حاصل کرنے کے لیے خزاں میں سٹی کی ویب سائٹ چیک کریں۔ 2019 میں ایوارڈ جیتنے والوں کو [یہاں](#) پایا جا سکتا ہے۔

ایوارڈز دسمبر میں برامپٹن سٹی ہال میں پیش کیے جائیں گے۔

اقتباسات

"برامپٹن مختلف کمیونٹیوں کا ایک حسین مسکن ہے اور سٹی معذوری کے حامل افراد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اپنی متنوع کمیونٹی کے لیے رسائی بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ میں برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ایکسیس ایبیلٹی ویک منانے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے پورے ملک میں ان لوگوں کی خدمات کو منائیں، جو برامپٹن اور کینیڈا کو تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کی ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کے طور پر، مجھے اس کام پر فخر ہے، جو ہمارے اراکین برامپٹن کو تمام صلاحیتوں کے لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نیشنل ایکسیس ایبیلٹی ویک کے طور پر، میں تمام لوگوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ معذوریوں کے حامل تمام ساتھی کینیڈینز کے قیمتی کردار کو منائیں اور برامپٹن اور پورے ملک میں لوگوں، کمیونٹیوں اور جائے ہائے کار کی خدمات کو پہچانیں۔ انہیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں، جو رسائی اور شمولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیل ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی

"سٹی میں، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے وقف ہیں کہ تمام عمر اور صلاحیتوں کے لوگ برامپٹن میں ایک ہی قسم کے مواقع سے لطف اندوز ہوں اور یہ کہ تمام لوگوں کے لیے مشمول اور لچکدار جگہیں بنائی جائیں۔ میں ہماری پوری تنظیم میں عملے کا ان کے اس کام کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وہ ہماری خدمات، پروگراموں اور سہولیات کو تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس نیشنل ایکسیس ایبیلٹی ویک کو منانے میں شامل ہوتا ہوں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہونے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca